



مرحوم مصطفیٰ خمینی استقامت، جرات اور علم کا پیکر تھے۔۔ - 27 / Oct / 2017

رہبرانقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اتوار کو مرحوم آیت اللہ الحاج سید مصطفیٰ خمینی کی رحلت کی چالیسویں برسی کی مناسبت سے ان کی یاد میں کانفرنس کا انعقاد کرنے والے کمیٹی کے ارکان سے خطاب میں فرمایا کہ مرحوم آیت اللہ مصطفیٰ خمینی علمی استعداد و جرات، تہذیب نفس، شجاعت اور مجاہدانہ افکار کے لحاظ سے ایک ممتاز انسان تھے اور ان کے علمی اور نظریاتی مقام و مرتبے کو آج کے معاشرے اور موجودہ نسل تک پہنچانا نہایت ضروری کام ہے۔

رہبرانقلاب اسلامی نے 1963 میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کے حادثے کے وقت مرحوم مصطفیٰ خمینی کی جانب سے امام خمینی کے لئے فداکاری کا مظاہرہ کئے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مرحوم مصطفیٰ خمینی نے اس وقت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے صحن میں انقلابیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا اور دلیرانہ کام انجام دیا اور یوں انہوں نے عوامی احتجاج کی مدبرانہ انداز میں قیادت کی۔

رہبرانقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے 1977 میں مرحوم آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کی انتہائی غم انگیز اور پراسرار موت کو بھی عوامی تحریک کے قیام کا محرک بتایا اور فرمایا کہ اس عظیم سانحے کا امام خمینی نے جس انداز سے سامنا کیا اور جس طرح سے انہوں نے اس غم کو خداوندعالم کا لطف خفی قرار دیا اس سے صبر و تحمل کے میدان میں امام خمینی کی عظیم شخصیت اور زیادہ نکھر کر سامنے آئی۔

رہبرانقلاب اسلامی نے مرحوم آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کی تہذیب نفس اور زہد و تقویٰ اور سادہ زندگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ مرحوم مصطفیٰ خمینی امام خمینی جیسی عظیم شخصیت اور بزرگ مرجع تقلید کے بیٹے تھے لیکن ان کے اندر سادگی اور انکساری ہمیشہ موجزن رہا کرتی تھی۔